

انجيل زاگان ۽ پڻ

ماس پس



نوح او مزنين
سيلاب



نوشتہ کار: Edward Hughes

الستر کار: Byron Unger; Lazarus

Alastair Paterson

اپنائنگ کار: M. Maillot; Tammy S.

مترجم کار: www.christian-translation.com

پیداوار کار: Bible for Children

www.M1914.org

BFC

PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1

Canada

©2020 Bible for Children, Inc.

لائسنس: ترا حق استیں کہ تہو این قصہ ء کاپی او پرنٹ کڑت کنے،
تا وخت ء کہ تہو اشی ء سودا نہ کنے۔



نوح اما مژدم ات که خدا ء
پرستش کرت۔ ہر یک خدا ء
تباہ او نفرت کرت، خدا یک ہجم
کنوکیں چیز ء گفت۔ " من اے لالچی
دنیا ء تباہ کنان، " خدا

نوح ء
گشت۔

"بس تہو او تہی
خاپوت
محفوظ
ہئے۔"




خدا نوح ء خبر دار كړت كه يك مزنيں سيلاب
ء كيت او زمين ء كورۍ- " داري ء كشتي
ء ټهائڼ، يك كشتي ء كه ټهې خاپوت او
بهازيں جناوران ء په بس بيى، " نوح
ء حكم دات بوت. خدا نوح ء برابر ء

بدايت دات. نوح
مصروف بوت.



مردمان شغل کرتنت وختہ
کہ نوح آئیاناں گوشت
کہ چہ ۽ پہ کشتی
ٹہائنگیں۔



نوح ٹہائنگ
رواں کرت۔ آ
مردماناں خدا ۽ بارہ ۽
گشگ ہم رواں کرت۔
کس نہ ہشکنت۔



نوح ء مزنيں ايمان بو۔ انگه
كه آئى بهچ پيش هور نه بوئت۔
زوت كشتى چيزانى پير
كنگ ء تيار ات۔




نو جناور اتنت۔ خدا پر نسل بچ ء ہفت یارٹ، دو دگہ یانچہ۔
چک مزنین او کسانین، جناور گنڈیں او دراجین وتی راہ ء
کشتی ء تیار کڑت۔



شائد مژدماں نوح ء ٹھوک دانتت وخت ء
کہ آ جناور آناں کشتی آ پیر کڑت،
آ خدا ء بد فعلی آ رواں کڑتنت۔
آ کشتی ء تہا سوار بیگ
ء نہ پر سنتنت۔





بلاخر، كل

ء جناور او چك
سوار اتنت، "كشتى

ء تها بها انت،"

خدا نوع ء دعوت دات.


"تهو او تهي خاندان." كشتى.

نوح، آئى ء جنين. آئى ء سه

زاگان او آئيانى جنينان كشتى ء تها

سوار بوتنت. پدا خدا در اناں بند كو!





پدا ہور یات۔

یک مزنیں

شنزئی ء ہور

چل شپ او روز زمین

ء تر گڑت۔ سیلاب ء آپ شہر او قصبہ

آن ء مان یات۔ وختہ کہ ہور اشتات، انچو


کوہاں زیر آپ اتنت۔ ہر چیز ء کہ دم گرتت مرتت۔



چو آپ زیات بوئگ شروع
بو، کشتی سرا تار جت. تها
تہار بوئگ بیت. شائد
ویران، شائد ہوفناک. مگہ
کشتی نوح ء پناہ دات.



پنچ ماہ ۽ سيلاب ٻچ پيش، خدا استه ٻشڪ
کنوڪين هوا ديم دات، کشتي ٻرارات ۽ ٻڙز
۽ کوٻانااا رام کڙت. نوح دومي چل
روز بوت چو آپ کم بو.



نوح کڻي ۽ پيچ ۽ کهڙڪي ٻيچ يڪ کواڙا او يڪ کپوت ۽ ديم
دات، آرام به به پڻه ٻشڪن جاه



نه گندڪ ۽
کپوت پس نوح ۽ کر ۽ يات۔
ٻفته ۽ پڻه، نوح پس کوشست
کڙت۔ کپوت وٽي ٿونبو ۽ ٿها
زيتون ۽ پن ۽ گونا پس يات۔ او
پدا نوح زانت که زمين
پشڪ انت چه ۽


په که کپوت پس
نه يات۔




خدا نوح ء گوشت که همی وخت انت که
کشتی ء یله بدان۔ یکجاء، نوح او آئی ء
خاپوت جناورانان جالا کڑتنت۔



چقدو نوح شکر
گزار پچسوس کڙتگ
بوتنت! آیک قربان
جاه ۽ ٺهائنت او خدا ۽
عبادت ۽ کڙت که آئی ۽
او آئی ۽ خابوت ۽ ہوفناکین
سیلاب بیچ ۽ پحفوز
کڙت۔





خدا نوح ء يك گچينن و عده
ء دات۔ كه آ انسان ء گناہانی

فيصله ء پس سيلاب
ديم نہ داں۔ خدا وتی
و عده ء گچينين ياد کری
ء دات۔ بی بی ء گندار خدا
ء و عده ء نشانی انت۔



سيلاب ٻچ ۽ پد نوح


او آئي ۽ خاندان نوکين شروع ۽

ديستنت. وخت ۽ تها، آئي ۽ اولادان

کل ۽ زمين آ دواره آباد ڪرڻتنت.

زمين ۽ کل قوم نوح و آئي

۽ زاگانچه ياتان.



نوح او مزنيں سيلاب

يک قصه ء خدا ء لوزان، انجيل


تہا دیدگ بوتہا

جينسز 6-10


"تہی لوزانی دلچسپی روشنائی دات۔"

پ س ا ل م 130:119





3



60



انجیل مارا مہے خدا وند ء بارہ ء گوشى۔
آ کہ مارا بنائینت او ہمے لوٹی کہ ما آئی ارہ درست بکناتیں۔

خدا وند زانی کہ ما غلطیں چیز کڑتا، آثارہ خدا وند گنا گوشى؛ گنا ء سزا
موت انت، لیکن خدا وند ترہ بہاز دوست کنت او آ وتی پاک ء زاگ چیزس ء
دیم دات کہ تہی واسطہ بمری او سزا بزوری، چیزس زندہ بوت یات او پس
جنت ء شو! اگہ تہو چیزس ء باور کنے او آئی ہچے وتی گناہانی معافی لوٹے،
آ کنت، آ نو کائی او تہی گونا بہی، او تہو آئی ء گونا ہمیشہ ہمیشہ ء بہے۔

اگہ ترا یقین کیت کہ اے راست انت، تو خدا آ گش:

جوانین عیسی، منہ یقین انت کہ تو خدائے، او منی گناہانہ پہ مرگہ
پہ یک مردم بھوتیں، او تون پس زندہ۔ مہربانی کن منی زندگی آتہا بیا
و منی گناہانہ مراگ کن، تاکہ من نوکیں زندگی ء گندی، او یک یک روچہ
ہمیشہ پہ تئی گونہ بی۔ تئی اطاعت پہ او وتی زاگے ڈول آتئی واستہ
پہ زندگ بئیگہ پہ منی کمک آکن۔ آمین۔

بائبل آ وان و گون ہدا ہر روچ گپ کن۔ جان 3:16

